

غزل

ہر اک منظر میں تیرا ہی ہمیں جلوہ نظر آیا
 جسے دیکھا، جہاں دیکھا تیرا چہرہ نظر آیا
 تیرے کوچے میں اب بھی یہ تیرا شیدا نظر آیا
 بس عقل و ہوش سے اپنے یہ بیگانہ نظر آیا
 کوئی کعبہ نظر آیا، نہ ہی گرجا نظر آیا
 نظر آیا تو بس ہر جا تیرا جلوہ نظر آیا
 زمین و آسماں سارے تیرے تابع نظر آئے
 جہاں میں ہر جگہ ہم کو تیرا چہرہ نظر آیا
 کبھی دیکھا تو عصیاں سے بہرا دامن نظر آیا
 بڑھی کچھ آس جب ہم کو کرم تیرا نظر آیا
 یہ مجذب اور دیوانے میرے اپنوں میں شامل ہیں
 وہاں محفل سجاتی اک جہاں اپنا نظر آیا
 پیا جب جامِ وحدت کا بدل گئی ساری دنیا بھی
 ہر اک منظر، ہر اک جلوہ ہمیں اچھا نظر آیا
 یہ سب پیرِ مغاں کی ہے کرامت کہ ہمیں بھی اب
 تیرا جلوہ نظر آیا، تیرا چہرہ نظر آیا
 کبھی جو جہانک کر دیکھا گرجاں میں تو پھر ثاقب
 ہمیں سب خامیوں سے پر، یہ آپ اپنا نظر آیا

غزل

تئے کا بھوت ہے سر پہ مرے سوار ابھی
 پڑ کے کان سے، نیچے نہ تو اُتار ابھی
 مرے فریب کا ٹوٹا نہیں ابھی جاو
 کسی کو ہے مرے وعدے پہ اعتبار ابھی
 سب امیر کی قسمت میں مرغ ہے، لیکن!
 مرے غریب کی روٹی پہ ہے اپار ابھی
 تو اپنی قوم کا معمار ہے بجائے، مگر!!
 نہ تین میں ہے نہ تیرد میں تو شمار ابھی
 کھلی میں بعد بھی مرنے کے جو تری آسکھیں
 وہ کون شخص ہے جس کا ہے انتظار ابھی
 غمِ حیات نے کتنا ہمیں ستایا ہے
 کہ مر گئے ہیں پر اُترا نہیں بخار ابھی
 مرے نصیب میں ٹوٹا ہوا ہے دو چرند
 طلالِ رزق میں ملتی نہیں ہے کار ابھی
 خزاں کے عہد میں تائب سجا ہے ویرانہ
 سنے شہاب کا آسکھوں میں ہے ٹھار ابھی